



سوال

(182) الصلاة خیر من النوم کے الفاظ حضرت عمرؓ نے داخل کیے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الصلاة خیر من النوم کیا یہ الفاظ جو فجر کی اذان میں ہوتے ہیں یہ حضرت عمرؓ نے بعد میں داخل کیے ہیں۔؟ یہ سوال شیعہ کرتے رہتے ہیں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

"الصلاة خیر من النوم" کے الفاظ کئی ایک صحیح احادیث میں آئے ہیں اور بعض احادیث میں مجمل طور پر بیان ہوا ہے کہ یہ پہلی اذان میں ہیں، اور پہلی اذان سے کیا مراد ہے اس کا بیان نہیں ہوا، کہ آیا پہلی اذان وہ ہے جو فجر سے قبل ہوتی ہے، یا کہ وہ بذاتہ فجر کی اذان ہے، ذیل میں ہم ان میں سے چند احادیث پیش کرتے ہیں:

1- ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن تھا اور اذان دیا کرتا تو فجر کی پہلی اذان میں "حی علی الفلاح" کے بعد

"الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم، اذاکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ"

کے الفاظ کہا کرتا تھا "

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (500) سنن نسائی حدیث نمبر (647) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابوداؤد میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے

2- ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

"پہلی اذان میں "حی علی الفلاح" کے بعد

"الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم"

کے الفاظ تھے "



صحیح البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اسے طحاوی (82/1) نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جیسا کہ حافظ رحمہ اللہ "السنن" (169/3) میں ذکر کیا ہے
دیکھیں: الثمر المستطاب صفحہ نمبر (131).

ان احادیث پر اعتماد کرتے ہوئے بعض کا کہنا ہے کہ:

"الصلاة خیر من النوم" کے الفاظ پہلی اذان میں ہونگے جو رات کے آخری حصہ میں ہوتی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد والی اذان میں ہونگے، اس کی کئی
ایک وجوہات ہیں:

۱- اول کے الفاظ اقامت کے اعتبار سے ہیں، اس طرح اقامت دوسری اذان ہوگی، اور صحیح حدیث میں اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"ہر دو اذانوں کے مابین نماز ہے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (598) صحیح مسلم حدیث نمبر (838).

اور صحیح مسلم میں نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد والی اذان کو پہلی اذان کہا گیا ہے:

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتی ہوئی کہتی ہیں:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پہلا حصہ سوتے اور آخری حصہ شب بیداری کیا کرتے تھے، پھر اگر انہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی حاجت ہوتی تو وہ پوری کرتے اور سو
جاتے، اور جب پہلی اذان ہوتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور اپنے اوپر پانی بہاتے، اور اگر جنبی نہ ہوتے تو اس طرح وضوء کرتے جس
طرح آدمی نماز کا وضوء کرتا ہے، پھر دو رکعت ادا فرماتے"

صحیح مسلم حدیث نمبر (739).

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ مسلم کی شرح میں کہتے ہیں کہ: ان دو رکعتوں سے فجر کی سنت مؤکدہ مراد ہیں

ب بعض احادیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ "الصلاة خیر من النوم" کے الفاظ صبح "فجر" اور غدا کی اذان میں کہیں جائینگے، اور یہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ "الصلاة خیر من
النوم" کے الفاظ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کہیں جائینگے، اور رات کے آخری حصہ میں کہی جانے والی اذان تو نماز کا وقت شروع ہونے سے قبل ہوتی ہے

ذیل میں ہم اس پر دلالت کرنے والی چند احادیث پیش کرتے ہیں:

1- ابو مخزومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان سکھائیں

وہ بیان کرتے ہیں: چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے لگے حصہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا لگے:

"تم یہ کلمات کہو:



اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.....

اور اگر صبح کی نماز ہو تو تم یہ کہنا:

"الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم"

اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: صبح کی پہلی (اذان) میں یہ کہنا:

"الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم"

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (501) سنن نسائی حدیث نمبر (633) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابوداؤد میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے

اور ابوداؤد کی ایک روایت کچھ اس طرح ہے:

ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان میں الصلاة خیر من النوم کے الفاظ کہا کرتے تھے "

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (504) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابوداؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے

2- انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: سنت یہ ہے کہ مؤذن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم کے الفاظ کہے "

علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

اسے دارقطنی نے (90) اور ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اور بیہقی نے سنن بیہقی (423/1) میں روایت کیا اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے

دارقطنی اور امام طحاوی (82/1) نے بھی حشیم عن ابن عون کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے:

"تثویب صبح کی اذان میں تھی وہ اس طرح کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہہ لے تو (دوبار) الصلاة خیر من النوم کہتا "

یہ الفاظ ابن السکن نے روایت کیے اور اسے صحیح کہا ہے

جیسا کہ "التلخیص (148/3) میں ہے

دیکھیں: الثمر المستطاب صفحہ نمبر (132).

ان احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ تثویب یعنی الصلاة خیر من النوم صبح کی نماز والی اذان میں کہا جائیگا

اور نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے وہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں کوئی ایک شخص اذان کہے "



مستفق علیہ

لیکن جو اذان رات کے آخری حصہ میں ہوتی ہے وہ صبح کی نماز کے لیے اذان نہیں، بلکہ وہ تو اس لیے ہے کہ:

(تاکہ قیام کرنے والا پلٹ جائے، اور سویا ہوا بیدار ہو جائے)

جیسا کہ صبح بخاری اور صبح مسلم میں یا حدیث ثابت ہے، تو اس سے یہ واضح ہوا کہ الصلاۃ خیر من النوم نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کہی جانے والی اذان میں کہنا بدعت نہیں بلکہ سنت ہے

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے درج ذیل سوال دریافت کیا گیا:

فجر کی پہلی اذان میں سنت نبویہ کے مطابق الصلاۃ خیر من النوم کہنے میں کیا مانع ہے، جیسا کہ سنن نسائی اور ابن خزیمہ اور بیہقی کی حدیث ہے؟

کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا:

"جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فجر کی پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے، اور حدیث سے واضح ہے کہ یہ وہ اذان ہے جو فجر صادق کے طلوع ہونے کے وقت ہوتی ہے، اور اسے پہلی اذان اقامت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، کیونکہ شرعاً یہ بھی اذان ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

"ہر دو اذانوں کے مابین نماز ہے"

اس اذان سے وہ اذان مراد نہیں جو فجر صادق طلوع ہونے سے قبل رات میں کہی جاتی ہے، وہ اس لیے رات میں مشروع ہے تاکہ سویا ہوا شخص بیدار ہو جائے، اور قیام کرنے والا واپس پلٹ جائے، نہ کہ یہ اذان فجر کی نماز کا اعلان ہے

جو بھی تنویب یعنی الصلاۃ خیر من النوم والی احادیث پر غور و فکر اور تدبر کرے گا، اسے صرف یہی سمجھ آئے گی کہ یہ اس اذان میں کہنا ہے جو نماز فجر کے لیے ہے، نہ کہ اس اذان میں جو فجر سے قبل رات کے وقت ہوتی ہے" انتہی

الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، الشیخ عبدالرزاق عقیفی، الشیخ عبداللہ بن ندیان، الشیخ عبداللہ بن قعود

دیکھیں: فتاویٰ اللیبیۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء (63/6).

نماز کا وقت شروع ہونے سے قبل والی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کے قائلین پر رد کی تفصیل آپ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب: الشرح الممتع (61/2-64) میں دیکھ سکتے ہیں

اور آپ کے مدرس کا یہ کہنا کہ: اس سے نماز فجر اور آدمی کی نیند سے متاثر نہ ہوتا ہے!

اس کی یہ کلام صحیح نہیں، کیونکہ ان الفاظ میں تو یہ خبر دی گئی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور اس میں سوتے ہوئے شخص کے لیے نیند چھوڑ کر اس سے لچھے اور بہتر کام کی طرف جانے پر ابھارا گیا ہے

حدا ما عنہمی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتوى

فتاویٰ علمائے

حدیث

جلد 2 کتاب الصلوٰۃ